

<p>نامہ دیگر صلب عبید باز تہود و رتور آستے کے زنے دیگر اورا بگرتہ زاد</p>	<p>دو دہائے نطفہ ناکام زید نطفہ کو نخت از بطن زنے مقصود کر بطن ام ناگرتہ زاد</p>
<p>روح از جسمے بروں آمد اگر چوں سیٹنے یابد او جسمے دگر؟</p>	
<p>این خیالت نیست جز سودا و مخام زین خیال خام باز آہ و اسلام</p>	
<hr/>	

# مُتَدْرِكَاتِ مُقَيَّدَةٍ

بہاں طفل نوزائیدہ کہ ہی میری

نیز اگر گوش سخن شنوا تراست  
زانہمہ مقصود دست انسان بدست  
بہر انسان است این حق و سما

بازمی دہاں یکدواری عقل تراست  
کاچہ بست اندر جہاں از کائنات  
علت غایت انسان جملہ را

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً (بقرہ جلد ۱) خَلَقَ لَكُمْ  
اِسْتَوَى نَبَا اِسْتَوَى لَمْ تَزِينَ كُوْنُوْشِ اُوْر اَسْمَانِ كُو عَمَّ رَسْتَه پید اکیا نھا ریمے  
مَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ جَمِیْعًا (بقرہ جلد ۱) (۱)  
جو کچھ زمین میں ہے سب

بہر انسان است ماہ و آفتاب  
از پے انسانست وقیہ حیات  
تاہیں زندہ نیاید بر زمین

بہر انسان خاک و باد و آب  
و زرا و وہم حماد و ہم نبات  
تا نیاید روح در جسم کھنیش

<p>مقصود خلقت پر حاصل نشد  چون طفیلی بود برخوان وجود  یافت در ہر منزل خود من و عن  واں کس آمد گوئے یک نفس  مقصودش را رو یا تمام آمد  زاں زلمتے یایدش اینجا قیام  بایدش ما بدن اے وقت لایل</p>	<p>تا نفس است و ہر نفس کامل نشد  زاں ہر منزل کہ او زین پیش بود  نفع و نقصاں حسب کار خویشتن  یک چوں روح آمدند جسم کس  کار تخلیقش با انجام آمد  یک کار روح باشد تا تمام  دتنے در عالم کسب و عمل</p>
<p>تحقیق روح</p>	
<p>بشنو از من گر تو می خواہی فتوح  جگر را دادوستد حق روح منسا  روح را ہم شد ترقی در حیات</p>	<p>یک اول یایدت تحقیق روح  ذرا باشد کہ باشد و اہما  چوں جواد یافت تشریف نیا</p>

<p>منتشر در محشرستان وجود          ہچیاں روح نمائش جز جہاں          در نسبت اجزای جانش نیز ہم          روح بخش مردم آئندہ اند          ہم قزونی روح را باشد در و          روح حیوانی در و آمد پدید          روح انسانی شدہ در استنش</p>	<p>انچہ از اجزائے انسانے کہ بود          جز جسمش بود چوں بہر یک از          در منی اجزائے تن چوں شہم          دو دو لائے لطفہ کا نہا زندہ اند          در جسم چوں جسم را باشند تو          جسم چوں در و بمقدار و رسید          چوں خسیں را کامل است خلقش</p>
<p>ہم طریقی ہم کاب و معناسان          ہر دو در ہر منزلش کرد و داد          کردہ می آید ادا از عہدہ پیش          قرضہائے خود قزوں از عہدہ</p>	<p>پس سر ہر منزل آمد جسم و جاں          قرض و در ہر منزل آمد ہر دورا          یک کہ منزل بمنزل قرض خویش          در جسم انساں شدہ ہم کرد ادا</p>

<p>پس نماند کار باد نیا دوست          ای بس باشد که بودیے تیر          یک نفس هم آگشاید جهان</p>	<p>احتیاج از یک نفس نبودنش          از سما و ارض و از شمس و قمر          فرض اینچاشد نووی جمله راں</p>
--	--

عصا پرچا  
 که در دنیا نماند  
 نفسی که نماند  
 با شمس و قمر  
 جهان را می کنند  
 سر این زمین  
 بیست که بیان  
 کرده اند

کامیابی باشدش روز حساب  
 بے سوال و بے جواب و کتاب

بچه تو ز ایدہ کہ در آزار دنیا مبتلا می شود

<p>وانچه آزارے ورین اثنا که دید          در مکافات خطائے پیشتر          ریں جهان تا بگروا و پاک وصاف</p>	<p>راں خطا باواں آرزو آمد پدید          در رحم یا در جهان بنید ضرر          واروش حق از غم عقوبتی معاف</p>
--	--

سجده  
 دروغ و بچه  
 نوز ایدہ  
 در دنیا  
 نماند

## اولادِ پیکانِ اولادِ پیدان

بچپناں از صلبِ بطنِ راستان  
 وز نہ صلبِ بطنِ پید جانِ او  
 لاجرم خوشحال تر زیشاں بو  
 وصلِ خوشتر در آخرت با اولِ خویش  
 و اما ذوقِ مسرتہائے وصل

یک اور گراہ آمدہ اندر حیان  
 کہیں ہم بہت اجر عمریتہما و او  
 کے چوبِ صلبان و بد بطنان بو  
 پاک صلبان پاک بطنان رہا  
 بہت و عقیبی پے اس فرغِ وصل

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَمْشَوْا مَعَهُمْ وَهُمْ كَمَا كَانَ آخِرُ الْآيَاتِ  
 اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا۔ ہم ساتھ لگا دینگے  
 ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أَكُلُوا مِمَّا كَرِهْتُمْ  
 اور ان کے اولاد کی اولاد کو اور نہیں کم کریں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر شخص جو کچھ اس نے  
 مِمَّا كَرِهْتُمْ فِي سُنَنِ سوره طور ح ۱۱۱ وَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ  
 کہا ہے اس میں گروہ ہے۔ اور (اے پروردگار!) داخل کران کو عدن کی  
 الْجَنَّةِ وَعْدَتْ تَحْتَهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ مِّنْ آيَاتِنَا وَعْدَتْ لِمَنِ كَانَ الْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جنتوں میں جن کا تو قے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے نیک کار باپ و اوروں اور بیویوں کو اور اولاد کو۔ (اقتباس سورہ مومن ج ۲۲ ص ۱۰۰)

جَنَّتِ عَدُوَّتُ يَدُ خَلْقِهَا وَمَنْ صَلَّى مِنْ اَبَائِهِمْ وَارْوَادِهِمْ  
عدن کی جنتیں یہ لوگ ان میں داخل ہوں گے اور ان کے نیک کار باپ و ادا سے اور بیبیاں  
وَدُوَّتِهِمْ حَوْج (رعد ص ۱۰۰)  
اور اولاد

زیر سرست نسبت ہرگز سح اثر	بہرید صلیباں و بد لطنان مگر
نے سوال آید بریشاں نے جواب	لیکن این ہر دو باشد از حساب

ہر دو را باشد نجات آنجاں
گو بود فرق مداسج در میاں

تفصیل فرایض حاضرہ
-------------------

دفع دخل
---------

اگر من متزلہا و پیشینیم چہ بود	ایکہ امداز تو مارا در شتود
--------------------------------	----------------------------





<p>لا اقی صدرو با رہی شکر کن  کار خود با اجتهاد دل کن  گیر تمام گیر نیا شی آ پختنال  فرض این منزل چه باشد؟ این گو  می کتم آگا بت از دمن و عن</p>	<p>دست پا و چشم داری شکر کن  انچه توانی دوری منزل کن  عبرت از محرومی گوش و زبان  فرض منزل کما پیشین را جو  فرض این منزل اگر کسی زمین</p>
--	--

### فرائض منزل دنیا

<p>بست این منزل تعلق از دور  حسن خلق و باز حسن کار و با  بر تو آمد نفع و نقصانش عیان  هم درین منزل بهم سازی چو ز  کن اگر کسب سعادت یابیت</p>	<p>چار فرض آمد و درین منزل ترا  آن دو فرض این است از من یاد دار  این دو را چون بست نسبت زمین  و آن دو دیگر کسب نفع معاد  آن عقائد پس عبادت باشد</p>
--	---

<p>بهر عقی این دست ناکزیر          یک در عقی است نفس میرا          زانکه از ما و دل لطفت نیست          آنگی نبود ترا بر دوسه ارض          ما و زایش را چه دانی غیر و هم</p>	<p>این عبادات عقائد یاد گیر          گو درین منزل نفی نفع ال          چون بطن ام نفی نفع گوش          بچنان از نفعهای این دوزخ          زانکه جز با حول اوست نیست فهم</p>
---	---

ضرورت رهبر

<p>تا تو اینها بد و هم ضعیف          زانکه بوش رهروی در سر نبود          هم مشیر و هم فقی و هم دلیل          تا تو مادی مایع و متغای و او          در خور آفات و نقصان آبی</p>	<p>چون بنزلهای شینت ترا          بهر تو کافی فقط رهبر نبود          فطرت آمد ترا از حق کفیل          از تو بکنانید جمله کار تو          در بدم که شیطان آمدی</p>
--	--

بسیار  
 بیخ

یا تو وارد شرکت مال و ولد	زاتک شیطان تا بجزئی ادم رسد
<p>و حدیث آمدہ هُوَ يَجْبِرُ فَجْبَرِي الدَّامِ . دَعَا لِسْتَعَالَى . وَتَسَارُ لِهَوَاهُ          وہ شیطان چلتا ہے خون کے دوران کی جگہوں میں۔          فی الاموال والاکل والادب (نبی اسرائیل ص ۵۰)۔          شیطان کو اس کا اختیار دیا کہ انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔</p>	
<p>بوش و عقل کا روانے یافتی          نفع خود را کے ز خود نمی توانیک          ہر وقت جوش و اجوش خونست          خیر با باشد کہ بگریزی از اں</p>	<p>اند میں منزل تو اتے یافتی          فرض تو گو حسب فطرت ہست یک          نفس شیطان در اگیت کنوست          سو شتر ہمی شومی از خود در اں</p>
<p>عَسَىٰ أَنْ تَلْرَهُوْا شَيْئًا وَّهَوْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَّكَمْ عَسَىٰ أَنْ تَحْبُوْا شَيْئًا وَّهَوْ          بسا اوقات تم نا پسند کر دے کسی شئی کو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور بسا اوقات تم پسند کر دے کسی چیز کو          تَعْلَمُوْا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (سورہ بقرہ ص ۲۶)          حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اس شئی تمہارے لئے تم نہیں جانتے۔</p>	
چوں کند کس از برے خیر ما	می کنی از بہر شر خود دعا

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ لِلشُّبُهَاتِ وَيَعْتَكِفُ بِهَا خَيْرٌ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوبًا  
 اور دعا کرتا ہے انسان برائی کیلئے وہ دعا جو بھلائی کے لئے مانگتا۔ اور انسان ہے بڑا جلد باز۔  
 (رہنما السائل ص ۱۲۱)

صفات رہبر

فرضیات بیشمار اندر جہانت	ایں جہاں بہت مصائب امتحانت
لاجرم باید تر ایک رہبرے	ہاں بستی ناگہاں اندر شرے
رہبرے کہ جنس تو باشد کراں	و حشت نبود کہ اتنی در زیاں

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ  
 اللہ نے مومنین پر احسان کیا جو انہیں میں سے رسول بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں  
 اَلْقُسُصِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبُرُؤِنَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  
 کو پڑھاتا ہے اور ان کو پڑھاتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کو تعلیم کرتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ  
 وَالْحِكْمَةَ طَوَّانَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ كَفَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينًا (آل عمران ۱۰۱)  
 پہلے سے گھلی ہوئی گمراہی میں تھے

رہبرت باید شریک حال تو	تا شود او صلح اعمال تو
یعنی مصلحتیں ہیں پیشتر	از تو باید مصلحتیں اکتوں مگر

صالح  
 انسان  
 اور

اسوۂ باشد ترا در ذات او		رہبرت بایستین در خلق و نحوہ
<p>وَأَنذَرْتُكَ لَعْنَةَ الْخَلْقِ عَظِيمٍ (سورہ قلم ۲۹) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ</p> <p>اور ہے شک تو بہت بڑے اخلاق پر ہے۔</p> <p>الْبَتَّةَ بَعَثْنَا لَكُمْ رَسُولًا لَكُمْ لِيُتَّقِيَ اللَّهَ وَرَبَّهُ (سورہ انعام ۱۹)</p> <p>زندگی میں ایک اچھا نمونہ۔</p>		<p>وَأَنذَرْتُكَ لَعْنَةَ الْخَلْقِ عَظِيمٍ (سورہ قلم ۲۹) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ</p> <p>اور ہے شک تو بہت بڑے اخلاق پر ہے۔</p> <p>الْبَتَّةَ بَعَثْنَا لَكُمْ رَسُولًا لَكُمْ لِيُتَّقِيَ اللَّهَ وَرَبَّهُ (سورہ انعام ۱۹)</p> <p>زندگی میں ایک اچھا نمونہ۔</p>
باشدش تا یسید غیبی از خدا		لیکن اس رہبر بود شمع ہدی
<p>يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَأَوْصِيَاءَ لِقَوْمٍ كَفَرُوا وَكَذٰلِكَ</p> <p>لے نبی ہم نے تم کو بھیجا ہے گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرا لیا اور اس کی طرف بلاسنے والا</p> <p>إِلَى اللَّهِ يَأْذُنُهُ وَيَسْرَاجًا مُّبِينًا (انحراب ج ۲۷)</p> <p>اوس کے حکم سے اور چراغ اور روشن۔</p>		<p>يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَأَوْصِيَاءَ لِقَوْمٍ كَفَرُوا وَكَذٰلِكَ</p> <p>لے نبی ہم نے تم کو بھیجا ہے گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرا لیا اور اس کی طرف بلاسنے والا</p> <p>إِلَى اللَّهِ يَأْذُنُهُ وَيَسْرَاجًا مُّبِينًا (انحراب ج ۲۷)</p> <p>اوس کے حکم سے اور چراغ اور روشن۔</p>
نے زخمی تھے ز غلظتین مہر اثر		درویش بود خوشنوت را گزر
<p>وَكُنتُمْ فَنَاءً غَلِيظًا الْقَلْبِ لَا تَفْضُوا مِن حَوْلِكَ (آل عمران ج ۱۱)</p> <p>اور اگر تو تیز مزاج تو سخت قلب والا تو البتہ لوگوں کے گرد سے جھڑک جاتے۔</p>		<p>وَكُنتُمْ فَنَاءً غَلِيظًا الْقَلْبِ لَا تَفْضُوا مِن حَوْلِكَ (آل عمران ج ۱۱)</p> <p>اور اگر تو تیز مزاج تو سخت قلب والا تو البتہ لوگوں کے گرد سے جھڑک جاتے۔</p>
جملہ عالم را سر ایاں راستے		ال ایماں را محسب رفتے

۴۰  
تذکرہ حکیم بنی

حَرِيصٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ سَرُوفٌ سَرِيحٌ (آخر سورہ توبہ جیسے) وَمَا  
 رسول تم لوگوں پر حرص میں، اور لیان دانوں کی محبت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اور ہم نے  
 اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَلِغًا لِلْعَالَمِينَ (آخر سورہ انبیاء جیسے)  
 تجھ کو نہیں بھیجا گیا کہ ہمت بنا کر تمام عالم کے لئے۔

کے بود و رکاز تو چالاک و چست  
 اعتماد و سرواں را کے منور

رہبرت و درجہ امر از چو چست  
 سہو و نسیاں گرازاں ز رہ و دو

مَنْ قَرَّبَهُ لَكَ فَلَا تَنْسَى (سورہ اعلیٰ جیسے)  
 غنقریب ہم تجھے پڑھا دیں گے پھر تو نہیں بھولے گا۔

رہرواں آنا کند از شکری  
 مہبط جبریل باشد منترش

عفتش باید و راہر بہری  
 ہرچہ گوید از حق آید یروش

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وُحْيٌ يُوحَىٰ ۗ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ  
 اور رسول نہیں بولتے ہیں اپنی خواہش سے۔ بیشک جو وہ بولتے ہیں، وہی جو تماری گئی۔ مضبوط آہوت  
 والے نے اذن کو سکھائی ہے۔ (ابتداء سورہ نجم جیسے)

## ضرورتِ کتاب و صفتِ آن

وحی منزلِ مَرویش نبود فقط	بلکہ باشد پاک از لوثِ شَطوٰط
لفظِ لفظش باشد از وحی الہ	بعد رہبر تا بود چوں شمعِ راہ

مَا كَانَتْ هَذِهِ الْقُرْآنُ أَنْ يُقْتَوَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ  
 نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ انہر کیا جائے کسی غیر خدا کی طرف سے۔ لیکن تصدیق ہو  
 تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا سَرِيْبَ  
 اس کا جو کہ کتاب اس کے سامنے ہے۔ در تفصیل ہے کتاب کی۔ اس میں شک  
 فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ (سورہ یونس ص ۱۰۱)  
 نہیں ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ہے۔

بطل از پیش و از پیش بیدگے	زیب نتواند در ویا بدگے
---------------------------	------------------------

ذٰلِكَ الْبَيْتُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ اَلْاٰمَنَةُ لَمَّا نَبَا بِنَبَا هٰذِهِ  
 کتابت پس کوئی نہک نہیں ہے۔ اس کے پاس باطن

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (م آسجدہ ج ۲۷ ص ۱۵۱)  
 نہیں سکتا ہی نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔

ہر کہ نازل کروا باشد حاشیہ فطش  
 پاک باشد لاس و ہم لاقطش

إِنَّا نَحْنُ مُزْتَلِمَاتُ الَّذِي كَرِهُوا وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ (ابتداء سورہ حجرات ج ۱ ص ۱)  
 بے شک ہم نے تمہارا وہاں نصیحت کی کتاب کو اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔  
 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (واقعه ح ۲ ص ۳)  
 نہیں چھوئیں گے اس کو مگر پاک لوگ۔

انچ نازل شدیہ و اندر کتاب  
 جمع آیات و سوز باشد ر حق  
 تا بود و سہو و خطا را سد باب  
 تا بود و جمع علیہ کل منسرق

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (سورہ قیامت ج ۲۹ ص ۱)  
 بے شک ہمارے ذمے ہی اس کا جمع کرادینا اور پڑھوادینا۔

عہ تمام اہل حق کا جماع ہے کہ آیتوں کی ترتیب جمع اور سورتوں کی تحدید و تعیین اور تسمیہ و توفیق  
 ہے اور یہ سب کام رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے خود حسب تعلیم الہی انجام دیے جس کا یہ عقیدہ  
 نہیں اس کے متعلق قرآن پاک خودیوں ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّ الدِّينَ يُحْيِدُ وَنَحْنُ فِي آتِيَاتِنَا



## بعد وفاتِ زہیر

بعد زہیراں کتابِ خلق او      خلق را باشد بسوئے را رو

چنانچہ روایت صحیحہ آمدہ کہ فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ اَلتَّقْلِیْبِ  
کِتَابِ اللّٰهِ وَ سُنَّتِیْ - و ہیں حدیث صحیحہ است - ہم چھوڑتے تھے تم لوگوں میں دھبہ لگانے  
چیزیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت -  
زواہیر -

اے زہیر زہیر کہ او برہراں      چوں پدر بودہ شفیق و مہرباں

حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمَوَاضِعِ سُرُوفٌ سَرِیْمٌ (آخر سورہ توبہ ج ۱۷)

ساجد پر و نش زندہ بود      جہت کے از بہر شالِ خیر و سود

(بقیہ صفحہ سابق) لَا یُخْضِرُونَ عَلَیْنَا دَمًا نَّکْفِیْ فِی الْمَارِ حَتَّىٰ نَمُوتَ یَا قَوْمِ اِنَّمَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَمَّا عَمِلْتُمْ اَلَّذِیْنَ کَفَرْتُمْ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّ اَکْبَرُ لَقَوْلِیْ اِیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوا کُلُّکُمْ اَعْمٰوۃٌ وَاِنَّ اَکْبَرُ لَکُنْیٰتِیْ  
کَا یَوْمَ یَدْعُو اَلْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِمْ اَنْ یَخْلُقُوۃً وَاَلَّذِیْنَ مِنْ حَیْثُ کَفَرُوۃٌ اَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ  
سورہ خمر سورہ یہ آیت ایسے لوگوں کو تارک کہ دنیا پسندے کہ ہذا اَر کتَابٌ یَنْطِقُ فِی  
عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ ج ۱۷) و السلام علی من اتبع الهدی - تبارک

ہم کتاب نوشت و بہر شاں	شمع رو بگذشت چوں راز جہاں
در جہاں بگذاشت بہر ہر سپہر	این دو نعتہ بچو میرا شب پدر

این دو شمع آید بکار در ہر وصال  
تا بماند این زمین و آسمان

### خطبہ

این قدر از سعی حاصل کردہ  
ماندہ در گنجما در گوشما  
تیکسا و اگر دی بہر جا بہر و فرغ  
حیف اگر این حالت اقتادوی زیبا  
این سفر را اتہا پاست مگر  
آخری باشد ترا ہم منترے  
روح تو در بطن ما در رو نمود

ایکے تو قطع مست ازل کردہ  
بودہ در و انہا در خوشہما  
آخر کار آمدی پر و ارض  
آمدی بہر جا بہر وں از عہد ما  
آہ! از نغمے تو ہستی و رسم  
قطع نہ نہا تو کردی سخن دلے  
جہاں بیشتر لہام پیشینیت نبود

بے خبر بودنی بطن اور ت	زیر بوا باہم تھی بودہ ست
------------------------	--------------------------

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  
 اور اللہ نے تم کو ان کے گونگوں سے نکلایا تاکہ تم کو کچھ پتہ چلے۔ اور بنایا تمہارے  
 السَّمْعَ لِكَيْ يَصْاْرَ اَكْفَادًا لِّاِكْلِ جِلْدِكُمْ  
 لے گا کان آنکھیں اور دل۔

شدید بیا حاصلت عقل و شعور	زید و تقویٰ اتنی وہم مکر و زور
تیز سر بہ نسرے افزو وہ	مشتے از ہر خرنسیر بودہ
یاد کن چوں بودہ چوں گشتہ	خود مگر آخر چہ اکنون گشتہ
حیف چوں عقابہ قہر و اشتی	مردمانے خوشین اشنا حتی
شد چو از بوش مترو صدیر و	آب حی کرد در فرضے زہد است
بہ مقصد نیست بن بیک و	حیف اگر بیشک کند تو شکست

خواب آواز بگے بیدار شو	فرض خودیت باس اندر کارو
------------------------	-------------------------

مطبوعہ برقی مشین پر لکھی اور پڑھائی ہوئی ہے

## رباعیات

مخلص کبھی دُور ٹھہرا کر تھننے کے لئے      جھکتا رہ کبھی حریف تھننے کے لئے

مزنہا مٹنا نہیں، سسپورے غافل      مٹنا بھی اگر یہ ہے، تو بٹنے کے لئے

سچ اجڑا کی ہو جگہ صائب پد      تکمیل بدن کی جاہرِ بطنِ مادر

ہر تربیتِ روح کی منزلِ دُنیا      حقیقی ہی نقطہ ہمیشہ رہنے کا ہے گھر

اول آتا ہے جب، تو آخر کے لئے      باطن ہوگا ہر ایک ظاہر کے لئے

ہوتا نہیں راستے ہی میں ختم سفر      منزل ہوگی ہر اک مسافر کے لئے

تمنا عمارتی بھی غفر لے

## فہرست مصنفات حضرت حسان المثنیٰ

مسدس عبرت زلزلہ - جس میں زلزلہ بہار کی پوری کیفیت اول سے آخر تک نہایت سن و خوبی سے نظم کر کے دکھائی گئی ہے شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں ہم سابقہ کتاب ~~میں~~ سے پہلے ~~کے~~ ~~میں~~ ~~پاک~~ ~~ہیں~~ ~~آیا~~ ~~ہے~~ ~~اوس~~ ~~کا~~ ~~مقتبل~~ بیان ہے قابل دید ایمان کو تازہ کر دینے والی کتاب ہے۔ قیمت ۴۰ روپے علاوہ محصول ڈاک۔ (اس کی قیمت مصیبت زدگان زلزلہ کو دی جاتی ہے)

نصاب تعلیم عربی - جو صرف علم - روح انجو عمر - جواہر الادب ۱۲ روپے سٹ کے خریدار سے صرف تین روپے مگر محصول ڈاک بہر حال ذمہ خریدار ان تینوں کتابوں سے آپ تین ماہ میں بغیر کسی استاد کی مدد کے عربی گرامر پر تقدیر ضرورت عبور حاصل کریں گے اور صحیح عبارت پڑھ لیں گے اور صحیح ترجمہ کریں گے۔

قومی نظمیں - ۱۔ جھوک - ۲۔ نصیح نصیح - ۳۔ انمول موتی - ۴۔ سیل اشک - ۵۔

الملاحضہ

منیجر - مکتبہ دارالادب - پھلواری شریف ضلع پٹنہ